

105471- کیا حسد پایا جاتا ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟

سوال

کیا اسلام میں حسد کا تصور ہے یا نہیں؟

پسندیدہ جواب

"حسد: جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے [یعنی: محسود] کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أَمْحُذِبُ بَرِّ الظُّلُمِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ مَا سَبَّ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

ترجمہ: کہہ دو: میں فخر کے وقت روشنی پیدا کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں [1] اس کی مخلوقات کے شر سے [2] اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ [3] اور گرہوں میں تختہ کرنے والیوں کے شر سے [5] اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ [الظلم: 1-5]

اور حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ: جب حاسد؛ حسد کا اظہار کرے اور حسد کے اثرات رونما ہونے لگیں اور وہ کوشش کرے کہ محسود شخص کو نقصان پہنچائے۔

حسد کے متعدد درجات ہیں:

پہلا درجہ: انسان اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زائل ہونے کو پسند کرے چاہے وہ چیز حاسد حاصل نہ کر پائے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے کسی پرانعام کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔

دوسرا درجہ: انسان اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زائل ہونے کو پسند کرے اور خود اس چیز کے حصول کی امید رکھے۔

تیسرا درجہ: خود اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو کسی دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، حسد کا یہ درجہ جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے بلکہ رشک ہے۔

حاسد انسان اپنے آپ کو تین طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔

اول: حاسد کو گناہ ملتا ہے؛ کیونکہ حسد کرنا حرام ہے۔

دوم: اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی؛ کیونکہ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بندے پر انعام کو اچھا نہیں سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ کی اس دین پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔

سوم: انسان اپنے آپ کو ہی دکھ اور تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، درود و سلام ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ کرام پر "ختم شد
البحیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء۔

الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ عبداللہ بن عدیان الشیخ صالح الفوزان الشیخ بکر ابوزید۔

"فتاویٰ البحیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والإفتاء" (26/29)

واللہ اعلم